

ROOTWORDS AL A'RAAF 54-84

تَصْرُوعًا	مُسَخَّرَاتٍ	حَيْثًا	يَطْلُبُهُ	يُغْثِي	سَيِّئَةً
ض ر ع	س خ ر	ح ث ث	ط ل ب	غ ش و	س ت ت
عاجزی سے	کام میں گئے ہوئے ہیں۔	دوڑتا ہوا	وہ اس کے پیچھے آتا ہے	ڈھانک دیتا ہے	چھپ
سَحَابًا	أَقْلَّتْ	الرِّيحَ	طَمَعًا	الْمُتَعَدِّينَ	خَفِيَّةً
س ح ب	ق ل ل	ر و ح	ط م ع	ع د و	خ ف ی
بادلوں کو	اٹھالاتی ہے	ہواؤں کو	امیدوار رہتے ہوئے	حد سے بڑھنے والوں کو	چپکے چپکے
وَأَنْصَحُ	نُصِرْتُ	نَكَدًا	خَبْتُ	سُقْنَاهُ	ثَقَالًا
ن ص ح	ص ر ف	ن ك د	خ ب ث	س و ق	ث ق ل
اور نصیحت کرتا ہوں	ہم بھیڑ بھیڑ کر بیان کرتے ہیں	ناقص	خراب ہے	ہانک دیتے ہیں ہم اس کو	بھاری بھاری
دَابِرٍ	قَطَعْنَا	بَسَطْنَا	سَفَاهَةً	عَمِينَ	أَوْعَيْتُمْ
د ب ر	ق ط ع	ب س ط	س ف ہ	ع م ی	ع ج ب
جڑ	کاٹ دی ہم نے	پھیلاؤ	کم عقلی	اندھے	کیا تمہیں تعجب ہوا
تَنْجِثُونَ	فُصِّرُوا	سَهْلَهَا	بَوَّأْتُمْ	فَذَرَوْهَا	نَاقَةً
ن ح ت	ق ص ر	س ہ ل	ب و ا	و ذ ر	ن و ق
تراشتے ہو	محل	نرم زمین اس کی	آباد کیا تم کو	تو اسے چھوڑ دو	اونٹنی
مُسْرِفُونَ	جَائِضِينَ	الرَّجْفَةَ	فَعَقَرُوا	اسْتَضْعَفُوا	تَعَفُّوْا
س ر ف	ج ث م	ر ج ف	ع ق ر	ض ع ف	ع ث و
حد سے بڑھنے والے ہو	اوندھے پڑے ہوئے	زلزلنے	پس انہوں نے کاٹ ڈالا	غریب تھے	فساد پھیلاؤ
		أَمْطَرْنَا//أَمْطَرًا	الْغَابِرِينَ		
		م ط ر	غ ب ر		
		برسایا ہم نے // مینہ	پیچھے رہنے والوں میں		